



## آپ کے خاندان کے کسی فرد کے گھریلو قتل یا خودکشی کے بعد خصوصی اور ماہرانہ مدد

ہم بھی ایسی ہی صورتِ حال کا شکار رہے  
ہیں اور جانتے ہیں کہ حد سے زیادہ معلومات  
نے آپ کو پریشان کر رکھا ہو گا۔  
ہمارے ماہر وکلا مدد کر سکتے ہیں۔

### ہم کیا کرتے ہیں؟

ہماری ترجیح ان خاندانوں کی وکالت کرنا ہے جو گھریلو قتل یا خودکشی کے غم سے دوچار ہیں۔

ایسا کرنے کے لیے ہم:

- سمجھ بوجھ اور ہمدردی کے ساتھ آپ کی بات سنتے ہیں۔
- یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا موقف سنا جائے۔
- خصوصی اور ماہر وکلا فراہم کرتے ہیں۔
- ہم اس مہارت کو استعمال کر کے گھریلو قتل (domestic homicide) کے جائزوں، سنگین مقدمات کے جائزوں، دماغی صحت کے جائزوں، قانونی تفتیشوں اور اس جیسے دیگر استفسارات کے دوران آپ کی وکالت کرتے ہیں۔
- خاندانوں کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کہانی سب کو سنا کر رفقہاء کی اعانت سے فائدہ اٹھائیں۔
- خاندانوں کے لیے اکٹھا ہونے کے مواقع پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کہانی سب کو سنا کر رفقہاء کی اعانت سے فائدہ اٹھائیں۔

ہم آزاد، مفت اور ایسی سروس فراہم کرتے ہیں جس کی قیادت آپ کرتے ہیں۔

ہم کون ہیں؟

AAFDA کے پاس ایسے گھرانوں کی وکالت کا 11 سال سے زیادہ تجربہ ہے جن کے خاندان کا کوئی فرد یا دوست گھریلو تشدد کے نتیجے میں قتل ہو گیا ہو یا اس نے خودکشی کر لی ہو۔ AAFDA کا قیام ہمارے بانی کے خاندان کے افراد کے گھریلو قتل کے بعد عمل میں آیا۔

ہمارے خصوصی اور ماہر وکلا نے گھریلو تشدد کے تمام پہلوؤں اور گھریلو قتل یا خودکشی کے بعد کی کارروائیوں کی اعلیٰ تربیت حاصل کر رکھی ہے اور ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارے تمام وکلا کو گھریلو تشدد کے بعد گھریلو قتل یا خودکشی کے بارے میں تجربہ حاصل ہے، جس سے ہماری سروس رفقاء کی قیادت سے چلتی ہے۔

## خاندانوں نے ہمیں کیا بتایا ہے:

"میں اپنے وکیل کے بغیر  
اس عمل سے نہیں گزر  
سکتا تھا"

"AAFDA نے زندگی  
بچانے کا کام کیا"

"AAFDA نے مجھے ہمت  
دی کہ اپنی بیٹی کا موقف  
پیش کر سکوں"

"AAFDA نے مجھے  
سوالوں کا جواب حاصل کرنے  
کی راہ دکھائی"

اگر آپ گھریلو تشدد کے بعد  
گھریلو قتل یا خودکشی کی وجہ سے  
اپنے خاندان کے کسی فرد  
یا دوست سے محروم ہو گئے ہیں تو ہم مدد کے لیے حاضر ہیں۔

ہمارے عمومی دفتری اوقات صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہیں لیکن ہم ان اوقات کے علاوہ بھی کالیں  
موصول کر سکتے ہیں۔

اگر ہم دستیاب نہ ہوں تو براہ مہربانی پیغام چھوڑ دیں اور ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔